

يوميہ نمازيں

يوميہ نمازيں

مسئلہ ۲۔ يوميہ نمازيں شريعت اسلام كے انتہائي اہم واجبات ميں سے بلکہ دين كا ستون ہيں اور انہيں كسي بهي حالت ميں ترك نہيں كرنا چاہئے۔

مسئلہ ۳۔ يوميہ واجب نمازيں ۱۷ ركعت ہيں جو كہ درج ذيل ہيں ؛

نماز صبح (دو ركعت)

نماز ظہر (چار ركعت)

نماز عصر (چار ركعت)

نماز مغرب (تين ركعت)

نماز عشاء (چار ركعت)